

تختی نمبر سوم (۳) حروف مقطعات

حروف مقطعات کا طلبہ کو حفظ کرادینا موجب برکت ہے

اَلَمْ	اَلَمْ	اَلَمْ	اَلَمْ
كَهَيَّعَصَّ	ظَهْ	طَسَمَ	
طَسَّ	يَسَّ	صَّ	حَمَّ
حَمَّ عَسَقَ	قَ	نَ	

تختی نمبر چہارم (۴) حركات

ہدایات اولاً زیر پیش کی پہچان کر تیں مثلاً یوں سمجھائیں کہ زیر حرف کے اوپر سے زیر نیچے — اور پیش اوپر مڑا ہوا ہے ہوتا ہے۔ بعد میں حروف پر لگا کر بتائیں اور حرکات کو قطعاً نہ کھینچنے دیں اتنا بھی جلدی نہ پڑھنے دیں کہ جھٹکا محسوس ہونے لگے اور بھول بھی نہ ہونے دیں۔

تنبیہ جس الف پر جزم یا کوئی حرکت زیر، زیر پیش ہو اس کو ہمزہ کہتے ہیں۔

اَ	اِ	اُ	اَ	اِ	اُ
----	----	----	----	----	----